

أَنْجَلِي
أَنْجَلِي
أَنْجَلِي
أَنْجَلِي
أَنْجَلِي

Samrina Sana
VuSi Malindi
Ursula Nafila

أَنْجَلِي




<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons



أَنْجَلِي
globalstorybooks.net
Global Storybooks





میرے گاؤں میں بہت سے مسئلے تھے۔ ہم
نے ایک نل سے پانی بھرنے کے لیے ایک لمبی
قطار بنائی۔


દ્વારા કાલીન રીત-

નું રોજાનું કે ધર્મ નું વધું હો







چوروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں
کو جلدی بند کر دیا۔




ہم سب نے ایک آواز سے کہ، 'ہمیں اپنی
زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔' اس دن سے ہم
نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلطہ
مل کر کلام کیا۔


የኢትዮ ከ-
ተ- | የዚህ ማስታወሻ | የዚህ ተ- የዚህ |

በ- መ- ተ- የ- የ-






نوجوان لڑکیوں نے دیگر گاؤں میں نوکرانی
کے طور پر کام کیا۔




ایک عورت نے کہا، 'خواتین کھلانے میں
اضافہ کرنے میں شمولیت اختیار کر سکتی
ہیں۔'


የኢትዮጵያውያን
የኢትዮጵያውያን

የኢትዮጵያውያን
የኢትዮጵያውያን






جب ہوا چلی فالتو لاغذ درختوں اور
جنگلوں پر لٹک گئے۔




میرے والد کھڑے ہو گئے اور کہ، 'ہمیں اپنی
مشکلات کو حل کرنے کے لئے مل کر کام
کرنے کی ضرورت ہے۔'

-እና የጊዜ
፲፻፱ ደንብ ማስታወሻ ተደርገው ፍቃድ



-ችላ
ኝና ይጠና የሚያስተካክለ
በአዲት የሚያስተካክለ የሚያስተካክለ





اور ایک دن نل سوکھ گیا اور ہمارے برتنا
خالی ہو گئے۔



میرے باپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو
گاؤں کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیئے
کہ-